

برائے فوری اجراء

## برامپٹن نے باضابطہ طور پر مارچ کو بلیک مینٹل ہیلتھ اوپنرس اینڈ ایمپاورمنٹ منتھ کے طور پر تسلیم کر لیا

برامپٹن، آن (10 مارچ 2021) – 3 مارچ کو، برامپٹن سٹی کونسل نے سیاہ فام کمیونٹی میں ذہنی صحت کے بحران کے رد عمل میں مارچ کو باضابطہ طور پر بلیک مینٹل ہیلتھ اوپنرس اینڈ ایمپاورمنٹ منتھ قرار دیا ہے۔

اس اہم مہینے کے حصے کے طور پر، سٹی کی سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک ایمپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کچھ بلیک مینٹل ہیلتھ اوپنرس اینڈ ایمپاورمنٹ کمیونٹی سیشنز کا انعقاد کرے گی۔

شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے لوگ درج ذیل [آن لائن نشستوں کے لیے یہاں](#) رجسٹر ہو سکتے ہیں۔

- یوتھ مینٹل ہیلتھ فورم: 18 مارچ شام 4:30 تا 6 بجے
- سینیئرز مینٹل ہیلتھ فورم: 18 مارچ شام 6:30 تا 7:30
- ومنز مینٹل ہیلتھ فورم: 25 مارچ شام 6 تا 7:30
- مینز مینٹل ہیلتھ فورم: 25 مارچ شام 7:30 تا رات 8:30
- LGBTQ+ مینٹل ہیلتھ فورم: 26 مارچ شام 6 تا 7
- اینٹی بلیک ریس ازم ایجوکیشن سیشن: 31 مارچ صبح 9 تا 12

سیاہ فام افراد کے خلاف نسلی تعصب کے حوالے سے برامپٹن کے اقدامات اور سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک ایمپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کے متعلق [brampton.ca/antiblackracism](http://brampton.ca/antiblackracism) پر مزید جانیں۔

پیل میں ذہنی صحت کے کمیونٹی وسائل کی فہرست کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔

### برامپٹن کی سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک ایمپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کے بارے میں

10 جون 2020 کو برامپٹن سٹی کونسل نے بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک ایمپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کی منظوری دی۔ سینیئر مشیر، گوینتھ چیپ مین کی قیادت میں، یہ یونٹ برامپٹن میں سیاہ فام افراد کے خلاف نظام میں موجود نسلی تعصب کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ کار تشکیل دینے اور نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ مقامی کمیونٹی کے اہم فریقین کی رہنمائی کے ساتھ، اس کا کام برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کی سماجی، ثقافتی اور معاشی حالت کو بہتر کرنے پر مرکوز ہے۔

مزید جاننے یا سٹی کی جانب سے اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کی تیاری میں شامل ہونے میں دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے، براہ کرم سٹی سے [economicantiblackracism@brampton.ca](mailto:economicantiblackracism@brampton.ca) پر رابطہ کریں۔

### اقتباسات

"کینیڈا میں معاشی افزودگی اور سیاہ فام افراد کے خلاف نسلی تعصب کے حل اور ہماری بلیک ہسٹری منتھ کی تقریبات کے حوالے سے برامپٹن کی جانب سے پہلی ورچوئل کانفرنس کے فوراً بعد، ہمیں مارچ کو بلیک مینٹل ہیلتھ اوپنرس اینڈ ایمپاورمنٹ منتھ قرار دینے اور سیاہ فام کمیونٹی کی مدد کے لیے ذہنی صحت کے فورمز کے اس تسلسل کی میزبانی کرنے پر فخر ہے۔ بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک ایمپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ برامپٹن میں سیاہ فام افراد کے خلاف نسلی تعصب کو ختم کرنے کے لیے اہم کام کر رہی ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"بلیک مینٹل ہیلتھ اوپنرس اینڈ امپاورمنٹ کمیونٹی سیشنز کئی اہم فریقین کو اکٹھا کریں گے، جن کا مقصد سیاہ فام افراد میں ذہنی صحت کے بحران سے متاثرہ لوگوں کو طاقت فراہم کرنا اور تعلیم اور بہتر انتظامی طریقہ ہائے کار کو فروغ دے کر جائے کار اور معاشرے میں نسلی تعصبات کا مقابلہ کرنا ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"یہ مہینہ سیاہ فام افراد کی ذہنی صحت و بہبود پر ایماندارانہ اور معلوماتی بات چیت کو مرکوز کرنے کے لیے ایک بڑا موقع فراہم کرے گا۔ ہم سیاہ فام افراد کے خلاف تعصب کے معاشرے اور معیشت پر تباہ کن اثرات کے بارے میں سنیں گے اور پر امید ہیں کہ ہم کینیڈا اور برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ حل کا حصہ بننے کا انتخاب کریں گے۔ سٹی کی اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ اس مہینے آنے والی نشستوں کے ذریعے رہائشیوں سے بات چیت کے لیے پر امید ہے"

- گوئینتھ چیپ مین، سینیئر ایڈوائزر، اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

گروندر سنگھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز

سٹی آف برامپٹن

905-874-2028 | [Gurvinder.A.Singh@brampton.ca](mailto:Gurvinder.A.Singh@brampton.ca)